

CHAPTER FIVE

PROPHET MUHAMMAD (Sallallahu 'alayhi wa Sallam) ONLY SERVES ALLAH

1. Worships only Allah (Subhanahu wa Ta'ala)

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا

أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹھ کے
ٹھٹھ ہو جائیں

تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا

And when Allah's devotee (Prophet Muhammad) stood up praying to Him (Allah), they (the jinn) crowded around him (to listen to him).

Say (to them, O beloved Prophet): I pray to my Lord only, and I ascribe to Him no partner. (72:19-20)

2. Puts total trust in Allah, (Subhanahu wa Ta'ala)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرمادو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں
میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے

But if they turn away (O beloved Prophet), say: "Allah is sufficient for me. None is to be worshipped but He. In Him have I put my trust, and He is the Lord of the Supreme Throne". (9:129)

3. Selflessly labours for Allah, asks for no reward

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا



تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ
لے

Say (O Beloved Prophet): “I ask of you no reward for it, except that whoso will, may take a (straight) Path to His Lord”. (25:57)

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تم فرماؤ
میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے
اس میں اور خوبی بڑھائیں بیشک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے

That is (the bounty) of which Allah gives the good news to His bondmen who believe and do good deeds. Say (O beloved Prophet): “I ask of you no reward for it, except kindness for kinship”. And whoso earns any good deed, We add to its good for him. Surely, Allah is Forgiving, Appreciative. (42:23)

4. Rewarded by Allah

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾

اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے

And certainly for you, there is an endless reward. (68:3)

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾

اے محبوب! بیشک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں

Surely, We have given you Al-Kawthar (Abundance of good and river in Paradise).
(108:1)